



مبارکباد



خوشگوار زندگی

بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔



نکاح کے بعد شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے اور بنائے رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ

میاں اور بیوی دونوں اپنے فرائض کا علم و احساس پیدا کریں اور خلوص و محبت سے

اپنے حصے کی ذمہ داری انجام دیں۔

شوہر کے فرائض

(النساء 19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو پھر اگر وہ تم کو کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں خیر و برکت رکھ دے۔

(النساء)

مَهْرًا وَآتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتَهُنَّ نِحْلَةً

اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔

☆ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔

☆ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ اور جب تم پہنو تو اسے پہناؤ اور اس کے چہرہ پر نہ مارو۔

اس کو بددعا کے الفاظ نہ کہو اور اگر اس سے ترک تعلق کرو تو گھر ہی میں کرو۔

☆ مالدار شوہر پر بیوی کے لئے اس کی استطاعت کے مطابق نفقہ ہے اور مفلس پر اس

کی استطاعت کے مطابق نفقہ ہے۔

☆ ظلم سے اجتناب : عورت کو سزا دینے اور تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرے۔ زیادہ

بیویوں کی صورت میں کسی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو معلق رکھ چھوڑنا ظلم

ہے۔

☆ بیوی کو دینی علوم اخلاق اور عبادات سے آراستہ کرے۔

بیوی کے فرائض

☆ شوہر کی اطاعت

فَالصِّلِحَتِ قَنْتِ (النساء 34)

جو نیک عورتیں ہیں وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تشریح میں یہ چیز میں بیان فرمائیں ہیں۔

☆ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے گھر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو ناپسند کرتے ہو۔

☆ وہ اس کے گھر میں سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے اگر ایسا کرے گی تو اجر شوہر کو ملے گا اور گناہ عورت پر ہوگا۔
☆ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔

☆ عورت شوہر کی موجودگی میں رمضان کے سوا نفل روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔

☆ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، جب اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو تیرے مال اور اپنے نفس میں تیرے حق کی حفاظت کرے۔ اس عام حکم کی اطاعت میں یہ بات تو ملحوظ ہے کہ شوہر اللہ کی نافرمانی کا مطالبہ کرے تو وہ انکار کر سکتی ہے۔

- ☆ جب مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے بلائے تو وہ انکار نہ کرے۔
- ☆ شوہر کی خوشی کے لئے صفائی، سلیقہ اور آرائش و سنگھار کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔
- ☆ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
- ☆ رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کریں۔
- ☆ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔
- ☆ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لئے اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔

رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاَجْعَلِنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا
 اے ہمارے رب ہم کو ہمارے جوڑوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک
 عطا فرما

اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ (سورۃ الفرقان 74)

ہمارا افتخار مستحکم خاندان

فلاح خاندان سنٹر

G-30/1، جو ہر ٹاون، لاہور پاکستان فون: 042-3531306 1,35304221

Email: fkc@gmail.com – FB:Falah-e-Khandaan